

TRANSLATIONS

Date: _____

اپنے پوشیدہ عیبوں کو معلوم کرنے کیلئے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ
ہمارے دشمن ہم کو کیا کہتے ہیں۔ ہمارے دوست اکثر ہمارے
غلطیوں کو موافق ہماری تعریف کرتے ہیں۔ اول ہمارے عیب
ان کو عیب ہی نہیں لگتے یا پھر ہماری خاطر کو ایسا
عزیز رکھتے ہیں کہ اس کو رنجیدہ نہ کرنے کے
خیال سے ان کو چھپاتے ہیں یا پھر ان سے چشم
پوشی کرتے ہیں۔ برخلاف اس کے ہمارا دشمن ہم
کو خوب ٹھونکتا ہے اور کونے کونے سے ٹھونڈ کر ہمارے
عیب نکالتا ہے، گو وہ دشمنی سے چھوٹی بات کو بڑا
بنا دیتا ہے۔ مگر اس میں کچھ نہ کچھ اہلیت ہوتی ہے۔
دوست اپنے دوست کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے اور دشمن
عیبوں کو۔ اس لیے ہمیں اپنے دشمن کا زیادہ
احسان مند ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں ہمارے عیبوں
سے مطلع کرتا ہے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو
دشمن دوستی سے بہت ثابت ہوتا ہے۔

Spelling mistakes. Although is followed by yet,
not but.

To find out our hidden faults, ^{it} It is necessary to
know what our ^{enemies} enemies opine about us. Our
friends usually praise us ^{in order to please us} according to our merits.
In the first place, our faults seem ^{they do not consider our faults} them faults or
^{for our sake,} ~~they keep our secret protected such an extent that~~
they either hide them or overlook them in order to
avoid our resentfulness. ^{Contrarily,} In contrast to it, our enemy
criticizes us ^{to} in a great ^{extent} extent and dig out our
faults from every corner. ^{animosity} Although ^{yet} he amplifies
insignificant matters in ^{animosity} animosity, ^{but} but there is
some truthfulness in it. A friend ^{an} promotes his
friends merits while enemy ^{his} our ^{demerits} demerits. Therefore,
we should be more thankful to our ^{enemies} enemies that ^{From this perspective,} make
us well-informed about our faults. In this comparison,
a enemy is proved more better than a friend.